

بِسْمِ اللّٰهِ

قرآن مجید کے 80% الفاظ

معانی یاد کرنے کی سہولت کے لئے
موضوع کے لحاظ سے تیار کردہ الفاظ کی فہرستیں

سمجھ میں آجائیں گی۔ استاد اور عام طالب علم (سوائے عربی زبان کے طلباء کے) کو ان مصطلحات کو استعمال کرنے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے ورنہ سیکھنے والوں کے دل میں خواہ مخواہ عربی کا ڈر بیٹھ جائے گا اور اس ڈر سے وہ سیکھنا ہی چھوڑ دیں گے۔

- الفاظ کی تعداد اور ان کے معانی: قرآن مجید کے الفاظ کی تعداد تقریباً 77,800 ہے۔ اس کتابچہ میں دے گئے الفاظ قرآن مجید میں 64,282 (82.6%) بار آئے ہیں۔
- صرف عام معانی: یہ بات واضح رہے کہ یہاں پر ہر لفظ کے صرف عام معانی ہی دے گئے ہیں۔ متن کے لحاظ سے کسی لفظ کے دیگر معنی بھی ہوسکتے ہیں۔
- ایک سے زیادہ معانی: جب کسی لفظ کے دو بالکل مختلف معانی دینے گئے ہوں تو دونوں معانی کے درمیان semicolon (;) دیا گیا ہے۔ اگر معانی میں قربت ہو تو صرف comma (,) دیا گیا ہے، مثلاً: (عَيْنٌ: آنکھ؛ چشمہ پانی کا) اور (عَلَى: پر، اوپر)
- الفاظ کی ترتیب: تقریباً ہر صفحہ پر الفاظ کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ الفاظ کو ڈھونڈنے میں مدد ملے۔

بِسْمِ اللّٰهِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بالکل واضح طور پر فرمایا: "ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں" (سورۃ ص، آیت 29)۔

احادیث میں بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے"۔ انہی مقاصد کو پورا کرنے کے میں کچھ مدد دینے لے یہ کتابچہ تیار کیا گیا ہے۔

اس کتابچہ کو استعمال کرتے وقت نیچے دی گئی باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ بات کو سمجھانے کے لئے ذیل کے نکات میں قواعد کی مصطلحات استعمال کی گئی ہیں۔ ایک مبتدی طالب علم کو کئی چیزیں اس کتابچہ میں دی گئی مثالوں کو دیکھ کر ان شاء اللہ خود بخود

- بہت زیادہ آنے والے الفاظ: ابتدائی 6 صفحات میں دیے گئے الفاظ قرآن مجید میں 32,268 (41.5%) بار آئے ہیں۔ یہ الفاظ ایک دوسرے سے مل کر بھی آئے ہیں، جیسے لَکْمٌ، یہ وغیرہ۔
- پر صفحہ پر اعداد و شمار: صفحہ 7 سے 33 تک ہر صفحہ کے نیچے اس صفحے کے الفاظ کی تکرار کا مجموعہ دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس خاص صفحے تک دیے گئے الفاظ پورے قرآنی الفاظ کا کتنا فیصد ہیں۔
- اسماء اور افعال: صفحہ 7 سے 14 تک اسماء کی اور 15 سے 33 تک افعال کی فہرست دی گئی ہے۔ ہر اسم یا فعل کے ساتھ دیا گیا نمبر یہ بتاتا ہے کہ وہ اسم یا فعل (اپنے مختلف صیغوں کی شکل میں) قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے۔ بعض اسماء، مصادر، اور افعال کے متن کے اعتبار سے مختلف معانی ہوسکتے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ اس کتابچہ میں صرف عام معانی ہی دیے گئے ہیں۔
- فہرستوں کی ترتیب: صفحہ 1 سے 14 تک دیے گئے الفاظ کو موضوع کے اعتبار سے فہرستوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہر فہرست کے خاص کر شروع کے الفاظ موضوع سے متعلق ہیں۔ بعض ایسے الفاظ بھی ہیں جو قرآن میں بار بار آئیں ہیں مگر انہیں

- اس کتابچہ کے کسی موضوع سے جوڑا نہیں جاسکا۔ ایسے الفاظ کو جس فہرست میں جگہ ملی، وہاں پر آخر میں رکھا گیا ہے۔ مثلاً صفحہ نمبر 6، 11، اور 12 کے آخری الفاظ۔
- افعال کی ترتیب: صفحہ 15 سے 33 تک دیے گئے افعال کو ان کے ابواب کے تحت تقسیم کیا گیا ہے تاکہ افعال کے سیکھنے میں آسانی ہو۔
- لفظ کی آخری حرکت: اس کتابچہ کے کسی لفظ (اسم، مصدر، اسم فاعل یا اسم مفعول) کے آخر میں اگر اعراب نہ لگے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ میں اس لفظ کی حیثیت کے لحاظ سے اس کے آخری حرف پر -، -، یا - آسکتے ہیں۔ اگر اس لفظ کے ساتھ ال لگا ہوا ہو تو آخری حرف پر -، - یا - آسکتا ہے۔
- فعل کے صیغے: ہر فعل کے لئے ایک ہی سطر میں (واحد مذکر غائب کے) ماضی، مضارع اور امر کے صیغے اور اسم فاعل و مصدر بھی دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ اس بنیاد پر آپ باقی سارے صیغے بنا سکیں گے۔ ایک عام طالب علم کے لئے ان صیغوں کو بنانے میں استاد کی مدد ضروری ہے۔
- معروف و مجہول: فعل کے ہر باب کے شروع میں معروف کے اور آخر میں مجہول کے صیغوں کا نمونہ دیا گیا ہے۔

- فعل کے تفصیلی صیغے: صفحہ 15 سے 35 تک دی گئی افعال کی فہرست میں ہر صفحہ پر اوسطاً کوئی دو افعال پر * لگا ہوا ہے۔ ایسے افعال کے تفصیلی صیغے علحدہ کتابچہ "قرآن مجید کے بعض منتخب افعال" میں دیے گئے ہیں تاکہ مبتدی طالب علم کو مشکل الفاظ کے صیغے بنانے میں کچھ مدد مل سکے۔
- صلة الفعل: ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی بعض افعال و مصادر ہمیشہ کسی حرف (صلة الفعل) کے ساتھ آتے ہیں جیسے آمَنَ بِ: پر ایمان لانا۔ بعض اوقات صلة الفعل کے بدلنے سے افعال کے معنی بھی بدل جاتے ہیں جیسے (کسی) سے مارنا، (کسی) کو مارنا ... وغیرہ۔ اس طرح کے چند منتخب عربی افعال صفحہ نمبر 34 پر دیے گئے ہیں۔
- مثنیٰ اور مؤنث کے صیغے: قرآن مجید میں مؤنث کے اور مثنیٰ (dual, 2) کے صیغے بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ پڑھتے یا پڑھانے ہوئے شروع میں ان پر نسبتاً کم توجہ دی جاسکتی ہے۔
- مراجعت: اس کتاب کی تیاری میں کئی کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ ان میں سب سے اہم کتاب (قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تکرارها۔ مکتبہ لبنان۔ لبنان۔ 1990) ہے جو دراصل جامعة الملك سعود کے معہد

- اللغة العربية کے تحت د. محمد حسین ابو الفتوح نے تیار کی تھی۔ جہاں تک الفاظ کے معانی کا تعلق ہے تو اس کے لئے زیادہ تر مولانا عبدالرشید نعمانی کی لغات القرآن (جلد 6) سے مدد لی گئی ہے۔
- اس کام میں کئی لوگوں سے مدد ملی - اللہ سے دعا ہے کہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ رکھے اور اگر ہوگی، ہوں تو معاف فرمائے۔ اگر آپ اس میں کوئی غلطی دیکھیں تو براہ کرم ضرور مطلع فرمائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اسکی تصحیح ہوسکے۔

Abbreviations

mg masc. gender fg fem. gender br.pl broken plural
 sg singular dl dual pl plural
 sb somebody st something ss somebody or something
 VEL: triliteral Verbs with Extra Letters (فعل ثلاثی مزید فیہ)

کون ؟	کس کا، کس کی، کس کے
هُوَ mg. وَه	... ۵. ۵. mg. اس کا۔ کی۔ کے
هُمْ mg. وَه سَب	... ۵. ۵. mg. ان کا۔ کی۔ کے
أَنْتَ mg. اَب	... ۵. ۵. mg. آپ کا۔ کی۔ کے
أَنْتُمْ mg. اَب سَب	... ۵. ۵. mg. آپ سب کا۔ کی۔ کے
أَنَا mg./fg. مِیْن	... ۵. ۵. mg./fg. (نی ٹھو کو)۔ میرا
نَحْنُ mg./fg. مِیْن	... ۵. ۵. mg./fg. ہمارا
هِيَ fg. وَه	... ۵. ۵. fg. اس کا۔ کی۔ کے
هُنَّ fg. وَه سَب	... ۵. ۵. fg. ان کا۔ کی۔ کے
أَنْتِ fg. اَب	... ۵. ۵. fg. آپ کا۔ کی۔ کے
هِيَ (for br.pl.) وَه سَب	... ۵. ۵. (for br.pl.) ان سب کا۔ کی۔ کے
هُمَا dl. وَه دُولُون	... ۵. ۵. dl. ان دُولُون کا
أَنْتُمَا dl. اَب دُولُون	... ۵. ۵. dl. آپ دُولُون کا

Words (from first 6 pages): 32263

Percent (first 6 pages) : 41.5

یہ ، وہ !!!	نہیں ، نہیں !!!
هَذَا mg. یِه	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [نہیں (کوئی) معبود سوائے اللہ کے]
ذَلِكَ mg. وَه	كَلَّا ہرگز نہیں
هَذِهِ fg. یِه	لَنْ (for future) ہرگز نہیں
تِلْكَ fg. وَه	لَمْ (for past) نہیں
هؤُلَاءِ mg./fg. یِه سَب	مَا نہیں ، کیا، جو
أُولَئِكَ mg./fg. وَه سَب	لَيْسَ (لَيْسَتْ fg.) نہیں
الَّذِي mg. وَه جُو	بَلَى کیوں نہیں
الَّتِي fg. وَه جُو	غَيْرَ سوائے ، نہ
الَّذِينَ mg. وَه سَب جُو	دُونَ سوائے ،
هَذِهِ (for br.pl.) یِه سَب	إِلَّا سوائے مگر
تِلْكَ (for br.pl.) وَه سَب	نَعَمْ ہاں
الَّتِي (for br.pl.) وَه سَب جُو	

Words (from first 6 pages): 32263

Percent (first 6 pages) : 41.5

کب ؟ ...	متفرقات ، ...
قَبْلَ پہلے	ذُو، ذَا، ذِي والا
بَعْدَ بعد	ذَات والی
حِينَ وقت، مدت، کھڑی	أَوَّلًا، أَوَّلِي والے
إِذَا (for past) جب	أَهْلُ والا
إِذَا (for future) جب	آل قوم، گھر کے لوگ، اتباع کرنے والے
ثُمَّ پھر	أَلَا خبردار ، کیا نہیں
فَ پس، تو، پھر	نَعَم کیا ہی تو ب، کیا ہی اچھا
بَلْ بلکہ	بَشَسَ کیا ہی بُرا
عِنْدَ، لَدَى، لَدُنْ پاس، نزدیک	بَشَسَمَا بُرا ہے جو
إِنْ ... إِلَّا نہیں ... مگر	مِثْلَ جیسے
مَا ... إِلَّا نہیں ... مگر	مِثْلَ (مِثَال pl.) مثال
أَلَا (أَنْ+لَا) کہ نہیں	مِمَّنْ (مِنْ + مَنِ) (اس) سے جو

Words (from first 6 pages): 32263

Percent (first 6 pages) : 41.5

سوالیات ؟	کہاں ؟
مَا کیا، جو	فَوْق اوپر
مَنْ کون، جو	تَحْتَ نیچے
مَتَى کب، جب	بَيْنَ أَيْدِي، بَيْنَ يَدَيْ سائے
أَيْنَ کہاں، جہاں	خَلْفَ پیچھے
كَيْفَ کیسے، جیسے	أَمَامَ سائے
كَمْ کتنا، جتنا	وَرَاءَ پیچھے
أَيُّ کونسا، جو	بَيْنَ (أَيْمَان pl.) دائیں، قسم
أَتَى کہاں سے، جہاں سے	شِمَال (شِمَائِل pl.) بائیں
أَ، هَلْ کیا ؟	بَيْنَ درمیان
مَاذَا کیا ؟	حَوْلَ اطراف
لِمَ، لِمَاذَا کیوں ؟	حَيْثُ جہاں، جس جگہ
كَوْنًا اگر نہ، کیوں نہیں ؟	أَيْنَمَا جہاں

Words (from first 6 pages): 32263

Percent (first 6 pages) : 41.5

6	فعل سے پہلے ، ...	ان ، ...
قَدْ (+فعل) يَتَقَيَّأ	بے شک	إِنَّ
سَ (+فعل) بہت جلد ، غفرب	کہ ، بے شک	أَنَّ
سَوْفَ (+فعل) جلد	گویا کہ	كَأَنَّ
لَ + فعل + نَّ ضرور	لیکن	لَكِنَّ (لَكِنَّ)
لَقَدْ (+فعل) البتہ ، تحقیق	شاید کہ	لَعَلَّ
لَ ضرور (تاکید کے لئے)	کہ	أَنَّ
لَ ، لَ (أمر) چاہیے کہ	اگر	إِنَّ
أَلَّ وَه	ہی	إِنِّي
أَمْ یا ... ؟	مکن ہے (کہ)	عَسَى
أَوْ یا	جب	لَمَّا
بَعْضُ بعض	اگر ؛ کاش	لَوْ
كُلَّ ہر ، سارے	اے	يَا أَيُّهَا

Words (from first 6 pages): 32263

Percent (first 6 pages) : 41.5

5	حروف جمر	حروف جمر + ما ، ...
ب	ساتھ ، سے ؛ پر	بِمَا (اس) پر جو ، اس لئے کہ
عَنْ	سے ، بارے میں	عَمَّا (اس) سے جو
فِي	میں	فِيْمَا (اس) میں جو
كَ	جیسے	كَمَا جیسا کہ
لَ ، لَ	لیتے	لَمَّا (اس) کے لئے جو
مِنْ	سے	مِمَّا (اس) سے جو
إِلَى	طرف ، تک	أَمَّا جو
تَ	قسم ہے	إِمَّا اگر ؛ یا
حَتَّى	یہاں تک کہ ، تاکہ	أَتَمَّا بے شک ؛ یہ کہ
عَلَى	پر ، اوپر	إِنَّمَا صرف بے شک
مَعَ	ساتھ	كَأَمَّا گویا کہ
وَ	اور	كُلَّمَا جب بھی

Words (from first 6 pages): 32263

Percent (first 6 pages) : 41.5

8	اسم تفضیل	کچھ صفات
31	أَشَدَّ بہت سخت	52 شَدِيد
11	أَعْلَى بہت بلند	11 عَلِيَّ
49	أَعْلَمُ بہت جاننے والا	162 عَلِيم
19	أَقْرَبُ بہت قریب	26 قَرِيب
23	أَكْبَرُ بہت بڑا	44 كَبِير (كَبِيرَة) بڑا
80	أَكْثَرُ بہت زیادہ	74 كَثِير (كَثِيرَة) زیادہ
36	أَحْسَنُ بہت اچھا	10 سَرِيع
10	أَحَقُّ بڑا حق دار	182 رَحِيم
12	أَدْنَى زیادہ نزدیک ؛ کمتر	107 عَظِيم
16	أَظْلَمُ زیادہ ظالم	71 قَلِيل (قَلِيلَة) تھوڑا
7	أَهْدَى زیادہ ہدایت یافتہ	27 كَرِيم
11	أَوْلَى زیادہ قریب ؛ زیادہ لائق	7 لَطِيف

Total words (this page): 1078

Percent so far: 45.4

7	پچھ صفات (اللہ کی اور دوسروں کی)
82	أَوَّل (أَوْلَى) پہلا
40	آخِر (آخِرَة) آخری
65	[آخِر (أَخْرَى) دوسرا]
14	أَمِين امانت دار ؛ امن والا
53	بَصِير دیکھنے جاننے والا
25	بَعِيد دُور
11	تَوَّاب خوب توبہ قبول کرنے والا
26	حَفِيز حفاظت کرنے والا
97	حَكِيم حکمت والا
15	حَلِيم بُردباد ، تحمل والا
17	حَمِيد تعریف کیا ہوا
20	حَمِيم گہرا دوست ؛ گرم پانی
45	خَبِير خبردار ، دانا
970	رَب پروردگار ، مالک ، آقا
57	رَحْمَن بڑا مہربان
42	سَلَام اسلامی ، امان
47	سَمِيع سننے والا
24	شَكُور بڑا شکر گزار ؛ بڑا قدردان
99	عَزِيز غالب ، زبردست
91	غَفُور خوب معاف کرنے والا
45	قَدِير قدرت والے
44	نَذِير ڈرانے والا
24	نَصِير مدد کرنے والا
24	وَكِيل کارساز ، ذمہ دار ؛ نگہبان ؛ مددگار

Total words (this page): 1977

Percent so far: 44.0

10		آخرت	
28	أَبَدًا	ہمیشہ	94
105	أَجْرٌ (أَجُور. pl.)	مَزُورٌ، لُوبٌ	32
52	أَجَلٌ	مَقْرَرٌ، مَدَّتْ	322
115	الْآخِرَةُ	آخِرَتٌ	20
72	أَلِيمٌ	دَرِزْنَاكٌ، أَلْمُتَاكٌ	70
13	ثَوَابٌ	لُوبٌ	24
26	جَحِيمٌ	بِطْرِكِي، آگ	21
42	جَزَاءٌ	بِدَلہ	54
147	جَنَّةٌ (جَنَّات. pl.)	جَنَّتٌ، بَاغٌ	145
77	جَهَنَّمَ	جہنم	40
39	حِسَابٌ	شمار، گننا	393
47	سَاعَةٌ	گھڑی، وقت	70
		صَاحِبٌ (أَصْحَاب. pl.)	سَاحِي
		عَاقِبَةٌ	اِجْتِمَاعٌ
		عَذَابٌ	سَخْتٌ، دُكُّ
		عِقَابٌ	عَذَابٌ، جُرْمٌ، كِسْرٌ
		قِيَامَةٌ	قِيَامَتٌ
		لِقَاءٌ	پیشی، ملنا، سامنے ہونا
		مُسَمًّى	مَقْرَرٌ
		نَهْرٌ (أَنْهَار. pl.)	نہر
		نَارٌ	آگ
		وَيْلٌ	ہلاکت
		يَوْمٌ (أَيَّام. pl.)	دِنٌ
		يَوْمَانِدٌ	اِس دِنٌ

Total words (this page): 2008

Percent so far: 51.5

9		اللہ کی نشانیاں	
382	آيَةٌ (آيَات. pl.)	آریت، نشان	332
71	بَيِّنَةٌ (بَيِّنَات. pl.)	کھلی دلیل	75
70	قُرْآنٌ	قرآن	(نَبِيُّونَ، نَبِيَّيْنِ، أَنْبِيَاء. pl.)
32	أَنْعَامٌ	مَوتِی، گائے، بکری وغیرہ	137
39	جَبَلٌ (جِبَال. pl.)	پہاڑ	56
38	بَحْرٌ	دریا، سمندر	86
33	شَمْسٌ	سورج	30
33	قَمَرٌ	چاند	195
80	لَيْلٌ	رات	88
57	نَهَارٌ	دن	74
461	أَرْضٌ	زمین	24
310	سَمَاءٌ (سَمَاوَات. pl.)	آسمان	26
		رَسُولٌ (رُسُل. pl.)	بھیجا ہوا
		نَبِيِّ بَنِي	
		أَدَمٌ نُوحٌ	إِبْرَاهِيمُ
		لُوطٌ	إِسْمَاعِيلُ
		يَعْقُوبُ (إِسْرَائِيل)	يُوسُفُ
		هُودٌ	شُعَيْبٌ
		مُوسَى	عِيسَى
		شَيْطَانٌ (شَيْطَانِيْنَ. pl.)	مَرْكَشٌ، شَرِيْرٌ
		فِرْعَوْنٌ	مَصْرُكُ
		عَادٌ	بُؤْدُ
		ثَمُودٌ	صَالِحٌ

Total words (this page): 2729

Percent so far: 48.9

12		نعمتیں	
34	آلَاءٌ pl.	نعمتیں	41
37	سُلْطَانٌ	زور، جت، سند، حکومت	31
84	فَضْلٌ	مہربانی	68
63	مَاءٌ	پانی	186
48	مُلْكٌ	بادشاہت، غلبہ	29
37	نِعْمَةٌ	انعام، فضل	35
26	أَجْمَعُونَ، أَجْمَعِينَ	سَبَّ كَسَبٌ	37
39	إِذْنٌ	حکم، اجازت	25
25	بَأْسٌ	سختی، آفت، لڑائی	26
53	جَمِيعٌ	سب، سارے	27
27	سَوَاءٌ	برابر	23
33	فَرِيْقٌ	گروہ	30
		اِعْمَالٌ	اِعْمَالٌ
		حَسَنَةٌ (حَسَنَات. pl.)	نِکلی، جھلائی
		سَيِّئَةٌ (سَيِّئَات. pl.)	برائی، گناہ
		خَيْرٌ	بہتر، جھلا، نیکی
		شَرٌّ	برائی
		إِثْمٌ	گناہ
		ذَنْبٌ (ذُنُوب. pl.)	گناہ
		جُنَاحٌ	گناہ
		حَرَامٌ	ممنوع
		اسْمٌ	نام
		حَدِيثٌ	بات
		طَيِّبَةٌ (طَيِّبَات. pl.)	پاک

Total words (this page): 1064

Percent so far: 54.9

11		عقیدہ	
85	أَحَدٌ (أَحَادٌ. fg.)	ایک	13*
34*	إِلَهٌ (إِلَٰهَةٌ. pl.)	معبود	17
40	شَرِيْكٌ (شُرَكَاء. pl.)	شریک، ساھی	247
26	شَهَادَةٌ	گواہی، ظاہر، کھلی	26
26	عَرَشٌ	شاہی تخت	20
29	عَهْدٌ	عہد، معاہدہ	43
49	غَيْبٌ	پوشیدہ، غیر حاضر	92
261	كِتَابٌ (كُتُب. pl.)	کتاب	32
42	كَلِمَةٌ	بات	56
88	مَلَكٌ (مَلَائِكَةٌ. pl.)	فرشتہ	83
25	مِثَاقٌ	عہد	119
61	وَاحِدٌ (وَاحِدَةٌ. fg.)	ایک	43
		أَمْرٌ (أُمُور. pl.)	کام، معاملہ، حکم، حالت
		تَقْوَى	ڈرنا، بچنا
		حَقٌّ	مطابق، ٹھیک، ثابت
		[بَاطِلٌ]	غلط، ناحق
		حِكْمَةٌ	حکمت، دانشمندی
		حَمْدٌ	تعمیر، شکر
		دِينٌ	دین، شریعت، بدلہ
		زَكَوَاتٌ	زکوٰۃ
		شَهِيدٌ (شَهِدَاء. pl.)	گواہ
		صَلَاةٌ	نماز
		مُبِينٌ	ظاہر، بیان کرنے والا
		نُورٌ	روشنی

Total words (this page): 1357

Percent so far: 53.5

دُنیا	لوگ
64 بَيْت (بُیوت pl.) گھر	64 أُمَّة (أُمَم pl.) جماعت، مَدَت
48 دَار (دِیَار pl.) گھر	383 قَوْم گروہ، جماعت
115 دُنیا	65 اِنْسَان انسان
176 سَبِيل (سَبَل pl.) راستہ	248 نَاس لوگ
46 صِرَاط راستہ	16 ذَكَر (ذُكُور pl.) مَرَد، نر
73 عَالَم (عَالَمِينَ pl.) ساری مخلوقات	30 اُنْتَنِي (اِنَاث pl.) عورت، مادہ
34 فِتْنَة اَزْمَالش، مِصِيبَة، فِئَاد	126 عَبْد (عِبَاد pl.) بندہ، غلام
57 قَرْيَة (قُرَى pl.) بستی	44 عَدُو (أَعْدَاء pl.) دشمن
86 مَال (أَمْوَال pl.) مال	21 كُفَّار pl. کُفَّار
34 مَتَاع سامان، ناندہ، نفع	52 مُجْرِم گنہگار، قصور وار
28 مَسْجِد (مَسَاجِد pl.) مسجد	22 مَلَأ بڑے لوگوں کی جماعت
32 مَكَان جگہ، مقام	86 وَلِي (أَوْلِيَاء pl.) بچانے والا دوست، مدرکار

Total words (this page): 1950

Percent so far: 59.3

رشتہ دار	خود (جسم کے حصے)
35 أُمُّ (أُمَّهَات pl.) ماں	72 وَجْه (وُجُوهُ pl.) چہرہ
117 أَب، أُمُّ (أَبَاء pl.) باپ	47 عَيْن (أَعْيُن pl.) آنکھ، چشمہ
76 زَوْج (أَزْوَاج pl.) شوہر، بیوی	38 أَبْصَار pl. نگاہیں
57 رَجُل (رِجَال pl.) مَرَد	21 أَفْوَاه pl. منہ
83 امْرَأَة (نِسَاء pl.) عورت	25 لِسَان (أَلْسِنَة pl.) زبان
56 وَكْد (أَوْلَاد pl.) لڑکا یا لڑکی	132 قَلْب (قُلُوب pl.) دل
20 وَالِد (وَالِدِينَ dl.) باپ	44 صَدْر (صُدُور pl.) سینہ
32 ذُرِّيَة اولاد	118 يَد (أَيْدِي pl.) ہاتھ
41 ابْن بیٹا	15 رَجُل (أَرْجُل pl.) پیر
22 (بَنُونَ، بَنِينَ، أَبْنَاء pl.) بیٹے	293 نَفْس (أَنْفُس pl.) جی، جان
67 أَخ (أَخُو، أَخَا، أَخِي) بھائی	21 رُوح رُوح
22 إِخْوَان pl. بھائی	28 قُوَّة قُوَّة

Total words (this page): 1482

Percent so far: 56.8

فعل ثلاثي مُجَرَّد	نَصَرَ	يَنْصُرُ	فَعَلَ	يَفْعَلُ	فَعَلْ	فَعَلَ	فَعَلَ	فَعَلَ
92	نَصَرَ * يَنْصُرُ	أَنْصُرُ	نَاصِرٌ	نَاصِرٌ	نَصْرٌ	مَدْرَكَنا	كُنَا	كُنَا
49	بَلَغَ يَبْلُغُ	أَبْلُغُ	بَالِغٌ	بَالِغٌ	بُلُوغٌ	پہنچنا	پہنچنا	پہنچنا
43	تَرَكَ يَتْرُكُ	أَتْرُكُ	تَارِكٌ	تَارِكٌ	تَرْكٌ	چھوڑنا	چھوڑنا	چھوڑنا
43	حَشَرَ يَحْشُرُ	أُحْشِرُ	حَاشِرٌ	حَاشِرٌ	حَشْرٌ	الٹھانکنا، گھیرنا	الٹھانکنا، گھیرنا	الٹھانکنا، گھیرنا
80	حَكَمَ يَحْكُمُ	أُحْكِمُ	حَاكِمٌ	حَاكِمٌ	حُكْمٌ	فیصلہ کرنا	فیصلہ کرنا	فیصلہ کرنا
61	خَرَجَ يَخْرُجُ	أُخْرِجُ	خَارِجٌ	خَارِجٌ	خُرُوجٌ	نکلنا	نکلنا	نکلنا
83	خَلَدَ يَخْلُدُ	أُخَلِّدُ	خَالِدٌ	خَالِدٌ	خُلُودٌ	ہمیشہ رہنا	ہمیشہ رہنا	ہمیشہ رہنا
248	خَلَقَ يَخْلُقُ	أُخَلِّقُ	خَالِقٌ	خَالِقٌ	خَلْقٌ	پیدا کرنا	پیدا کرنا	پیدا کرنا
78	دَخَلَ يَدْخُلُ	أَدْخُلُ	دَاخِلٌ	دَاخِلٌ	دُخُولٌ	داخل ہونا	داخل ہونا	داخل ہونا
163	ذَكَرَ * يَذْكُرُ	أَذْكُرُ	ذَاكِرٌ	ذَاكِرٌ	ذِكْرٌ	یاد کرنا	یاد کرنا	یاد کرنا
122	رَزَقَ يَرْزُقُ	أَرْزُقُ	رَازِقٌ	رَازِقٌ	رِزْقٌ	رزق دینا	رزق دینا	رزق دینا

Total words (this page): 1062

Percent so far: 61.8

فعل ثلاثي مُجَرَّد	فَتَحَ	يَفْتَحُ	فَعَلَ	يَفْعَلُ	فَعَلَ	فَعَلَ	فَعَلَ	فَعَلَ
105	فَتَحَ يَفْتَحُ	أَفْتَحُ	فَاتِحٌ	فَاتِحٌ	فَتْحٌ	کھولنا، فتح کرنا	کھولنا، فتح کرنا	کھولنا، فتح کرنا
29	بَعَثَ يَبْعَثُ	أَبْعَثُ	بَاعِثٌ	بَاعِثٌ	بَعْثٌ	بھیجا، اٹھانکنا، کھڑا کرنا	بھیجا، اٹھانکنا، کھڑا کرنا	بھیجا، اٹھانکنا، کھڑا کرنا
65	جَعَلَ يَجْعَلُ	أَجْعَلُ	جَاعِلٌ	جَاعِلٌ	جَعْلٌ	بنانا	بنانا	بنانا
346	جَمَعَ يَجْمَعُ	أَجْمَعُ	جَامِعٌ	جَامِعٌ	جَمْعٌ	جمع کرنا	جمع کرنا	جمع کرنا
40	ذَهَبَ يَذْهَبُ	أَذْهَبُ	ذَاهِبٌ	ذَاهِبٌ	ذَهَابٌ	جانا	جانا	جانا
35	رَفَعَ يَرْفَعُ	أَرْفَعُ	رَافِعٌ	رَافِعٌ	رَفْعٌ	بلند کرنا، اٹھانا	بلند کرنا، اٹھانا	بلند کرنا، اٹھانا
28	سَحَرَ يَسْحَرُ	أَسْحَرُ	سَاحِرٌ	سَاحِرٌ	سِحْرٌ	جادو کرنا	جادو کرنا	جادو کرنا
49	صَلَحَ يَصْلَحُ	أَصْلِحُ	صَالِحٌ	صَالِحٌ	مَصْلَحَة	نیک ہونا	نیک ہونا	نیک ہونا
131	لَعَنَ يَلْعَنُ	أَلْعَنُ	لَاعِنٌ	لَاعِنٌ	لَعْنٌ	لعنت کرنا	لعنت کرنا	لعنت کرنا
27	نَفَعَ يَنْفَعُ	أَنْفَعُ	نَافِعٌ	نَافِعٌ	نَفْعٌ	فائدہ دینا	فائدہ دینا	فائدہ دینا
42	فَعَلَ يَفْعَلُ	مَفْعُولٌ	مَجْهُولٌ	مَجْهُولٌ	مَجْهُولٌ	مَجْهُولٌ	مَجْهُولٌ	مَجْهُولٌ

Total words (this page): 897

Percent so far: 60.4